

## شاک مارکیٹ کیا ہے؟

شاک مارکیٹ میں عوامی سطح پر منعقد کمپنیوں کے حصص جاری کئے جاتے ہیں۔ اور ان حصص میں ٹریڈنگ (لین دین) بھی شاک مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کو (ایکوٹی مارکیٹ) کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔

## حصص:

حصص ایک مالیتی انسٹرومٹ ہے جو کسی بھی ادارے میں ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کسی بھی ادارے میں منافع اور نقصان کا برابر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

## سرمایہ کار مارکیٹ کی اقسام:

- ☆ اسٹاک مارکیٹ
- ☆ کرنٹی مارکیٹ
- ☆ اجناس کی مارکیٹ

## انٹرنیٹ ٹریڈنگ سافت ویرٹ کی بنیادی اصلاحات

### -1 حصص کوڈ/علامات (Symbol)

اسٹاک مارکیٹ میں درج ذیل کمپنیوں کو پاکستان شاک مارکیٹ کی طرف سے بنیادی ٹریڈنگ علامت تفویض کی جاتی ہے۔ تاکہ سرمایہ کار بہ آسانی ٹریڈنگ کر سکے۔

Pakistan Oil Field (POL)

National Bank of Pakistan Limited (NBP)

### -2 حصص خرید: (Buy Order)

وہ قیمت جس پر سرمایہ کار حصص خریدتا ہے۔

### -3 حصص فروخت (Sell Order)

وہ قیمت جس پر سرمایہ کار حصص فروخت کرتا ہے۔

## **(Limit Order): حد آرڈر**

ٹریڈنگ آرڈر کی وہ قسم جس میں سرمایہ کار ایک خاص مطلوبہ قیمت پر حصہ خرید یا فروخت کے لیے پیش کرتا ہے۔ اور یہ قیمت حصہ کی موجودہ قیمت سے کم یا زیادہ ہوتی ہے۔

## **(Current Price Order): موجودہ قیمت پر خرید و فروخت**

اسٹاک مارکیٹ میں جاری اور موجود قیمت پر خرید و فروخت کو عام طور پر (Current Price Order) کہا جاتا ہے۔

### **High Price: زیادہ سے زیادہ قیمت**

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران حصہ کی زیادہ سے زیادہ قیمت

### **Low Price: کم سے کم قیمت**

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران حصہ کی کم سے کم قیمت

### **اوسط قیمت: Low Price**

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران خرید و فروخت کی اوسط قیمت

### **Closing Price: اختتامی قیمت**

وہ قیمت جس پر حصہ ٹریڈنگ اختتام پذیر ہوں۔

### **Price Change: قیمت میں تبدیلی**

اسٹاک مارکیٹ میں قیمت کی تبدیلی کو پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے موازنے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر حصہ کی قیمت میں تبدیلی سبز (Green) رنگ میں ہو تو حصہ پچھلے دن کی اختتامی قیمت سے زیادہ قیمت پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور سرخ رنگ کم قیمت پر ٹریڈنگ کو ظاہر کرتا ہے۔ قیمت کی تبدیلی فی صد (%) اور پیسے میں ٹریڈنگ سافٹ دیز پر ظاہر ہوتی ہے۔

## حصص جم: (Volume)

کسی بھی ٹریڈنگ کے دوران حصص کی خرید و فروخت کی تعداد۔

## لٹ سائز: (Lot Size)

حصص ٹریڈنگ اسٹاک مارکیٹ میں (Lots) کی شکل میں ہوتی ہے۔

مارکیٹ لٹ (کم سے کم)	حصص قیمت کی حد
500 حصص	100 روپے سے 0.01
100 حصص	500 روپے سے 100.01
50 حصص	1000 روپے سے 500.01
20 حصص	1000 روپے سے اوپر

## لیورچ خرید: (Leverage Buy)

اُدھار پر حصص کی خرید کو لیورچ (Leverage Buy) کہتے ہیں۔

## مارجن: (Margin)

اسٹاک بردار کی طرف سے فراہم کردہ قرض جس کی بناء پر سرمایہ کار اسٹاک مارکیٹ میں کم مالیت کے ساتھ زیادہ مالیت کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔

اسٹاک بردار کی طرف سے فراہم کردہ قرض (margin) سرمایہ کار کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں موجود نقد اور حصص سے Collateralized ہوتا ہے۔

## مارجن کال: Margin Call

اسٹاک مارکیٹ میں ممکنہ نقصان کی صورت میں بروکر، سرمایہ کار سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں نقد یا حصہ ڈیپاٹ کریں تاکہ Margin کی مطلوبہ حد کو پورا کیا جاسکے۔

## نقصان محدود کرنا: Stop - Loss / Stop - Buy

ایک سرمایہ کار کے نقصان کو محدود کرنے کے لیے ڈی ائن کیا گیا ہے۔ کہ جب حصہ قیمت ایک مطلوبہ حد تک پہنچ تو حصہ خرید و فروخت کے آرڈر خود کا رطیتے سے دی گئی قیمت پر مارکیٹ میں Execute ہو جائے اور سرمایہ کار کسی بڑے نقصان سے بچ سکے۔

## بنیادی ٹریڈنگ مارکیٹیں:

پاکستان اسٹاک ایچیچن سرمایہ کار کی سہولت کے لیے کئی قسم کی ٹریڈنگ مارکیٹ کی سہولت فراہم کرتا ہے۔

- |                        |                   |    |
|------------------------|-------------------|----|
| Regular market         | با قاعدہ مارکیٹ:  | -1 |
| Future Contracts       | مستقبل کے معابدے: | -2 |
| Index Future Contracts | انڈیکس کے معابدے: | -3 |

**زیرالتواڑیڈنگ آرڈر کی منسوخی** (Cancel of Outstanding Orders)  
انٹرنیٹ ٹریڈنگ سافٹ ورکی عارضی معطلی کی صورت میں زیرالتواڑیڈنگ آرڈر کی منسوخی  
کے لئے نیچے دئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔

**عبدالمتین، افتخار احمد**

**0213-2472103**

**0213-2472330**

## **ثالث: (Arbitration)**

ثالث ایک ترتیب ہے جس میں دو افراد اپنے اختلافات کو تیرے منتخب فریقین کی موجودگی میں حل کرتے ہیں اور ایک باہمی رضامندی سے ایک فیصلے کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا پاکستان اسٹاک ایچیجنچ (PBR) دو فریقین کے درمیان پیدا ہونے والے تنازع کو اپنی ثالثی ٹیم کی موجودگی میں باہمی رضامندی سے حل کرتی ہے۔ اور فریقین کو پابند کرتی ہے کہ وہ ثالثی میں ہونے والے فیصلے کو قبول کریں۔

## **فریقین:**

فریقین پاکستان اسٹاک ایچیجنچ سے ثالثی کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں جب بروکرز کے مابین تنازع ہوں  
بروکرز اور ایجنت کے مابین تنازع ہوں۔  
بروکر اور سرمایہ کار کے مابین تنازع ہوں۔

## **تنازعات کی اقسام:**

- ☆ سرمایہ کار کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں غیر مجاز ٹریڈنگ
- ☆ سرمایہ کار کے مجرما کاؤنٹ میں متفرق چارجز زائد کمیشن چارجز
- ☆ لصداقی Email کی غیر ترسیل ادائیگی میں تاخیر اور ادائیگی نہ کرنا۔
- ☆ سرمایہ کار کی ہدایات پر عمل نہ کرنا۔

## ٹالٹی کا عمل:

- 1 درخواستوں کی جانچ پر تال
- 2 درخواستوں کی منظوری اور نامنظوری کا عمل
- 3 منظور شدہ درخواستوں کی واحد ٹالٹ یا ذیلی ٹالٹ پینٹ کے حوالے کرنا۔
- 4 دونوں فریقین کو سماعت کے نوٹس جاری کرنا۔
- 5 دونوں فریقین کو سماعت کے دوران برابری کی بنیاد پر اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دینا۔
- 6 ٹالٹ کا فیصلہ ہتھی فیصلہ ہوگا۔ اور یہ فیصلہ درخواست موصول ہونے کے 90 دن کے اندر کرنا ہوگا۔
- 7 کوئی بھی فریق اگر ٹالٹ کے فیصلے سے متفق نہ ہو تو وہ ریگولٹری افیسر کمیٹی میں 15 دن کے اندر اپیل کر سکتا ہے۔

سکیوورٹیز ٹریڈنگ کا نقصان

IBTS سسٹم کے ناکام ہونے کا خطرہ

IBTS سسٹم کی ناکامی کاروباری اوقات کار میں ہو سکتی ہے جس کی وجہ فی خرابیاں ہیں جس سے اکاؤنٹ ہولڈر کو نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ وقت پر آرڈر رز کے اجراء کے لئے ٹریڈنگ کی عدم وستیابی یا مطلوبہ قیمت اگر محدود آرڈر IBTS میں نہیں دی جاتی اس کے علاوہ سسٹم کی ناکامی کے دوران آرڈر رز کی منسوخی بھی اکاؤنٹس ہولڈر رز کے اکاؤنٹ میں خسارے کا سبب بنتا ہے۔

اقتصادی خطرہ:

کسی بھی کمپنی کی کاروباری کا رکرداری کا انحصار اقتصادی نشوونما پر ہوتا ہے جو کہ مستقل طور پر ان کمپنیز کو اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ اس نشوونما کی وجہ سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے جبکہ شیئر ہولڈر کو بھی اقتصادی امور کے موثر ہونے کی وجہ سے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقتصادیت سے متعلق خطرات عموماً GDP نشوونما، افراط زر، ادایگی کی پوزیشن میں بیلنس، انٹریسٹ ریٹ، کریڈٹ نشوونما کے عوامل کی وجہ سے ہوتا ہے۔

انڈسٹری کا نقصان:

تمام صنعتیں حلقہ وار طریقہ سے نشوونما پاتی ہیں اور شیئر ہولڈر ز ابتدائی مرحلہ میں اس کاریوارڈ حاصل کرتے ہیں جبکہ ایک بار انڈسٹری مطلوبہ مرحلے پر پہنچتی ہے تو سرمایہ کاری کاریوارڈ محدود ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ صنعتوں سے متعلق کمپنیاں جس کی وجہ سے ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری سے ہونے والے ریٹرنز پر بھی اثر پڑتا ہے۔

کاروباری نقصان:

کاروباری نقصان جو کہ کمپنی کے کام کرنے کے دوران ہوتا ہے اور یہ حالات آمدی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے متوقع ڈویڈنڈ حاصل نہیں ہوتا۔

### مالیاتی نقصان:

یہ ممکن ہے کہ شیئر ہولڈر جب اس کمپنی میں سرمایہ کاری کریں جو کہ قرض کے تلے ہے تو وہ انہیں رقم کا خسارہ ہوتا ہے۔ اگر کمپنی کی کارکردگی مالیاتی امور کے مطابق نہیں ہے جب ایک کمپنی قرضہ کے تحت مالیت کو استعمال کرتی ہے تو اس کے کریڈیٹز اس کے شیئر ہولڈر سے پہلے ہی رقم کی واپسی کریں گے اگر کمپنی کو دیوالیہ ہو جائے۔

مالیاتی نقصان جو کہ کار پوریشن یا گورنمنٹ کی غلطی کی وجہ سے بھی ممکن ہے جس کی وجہ سے ان بانڈ ہولڈرز کو مالی طور پر نقصان ہوتا ہے۔

### اپکھینچ ریٹ کا نقصان:

کرنی میں اتار چڑھاؤ جو کہ آمدنی پر اثر ڈالتا ہے جس کے نتیجہ میں قیمتوں پر اثر ڈلتا ہے۔

### افراط زر کا نقصان:

قیمتوں کا بڑھنا یا افراط زر کی خرید کی قوت میں کمی کی وجہ سے ایک عام آدمی اقتصادی حالت میں بے حد پیچھے رہ جاتا ہے جس کا اثر اقتصادی امور میں تمام سیکٹرز پر ہوتا ہے۔

### انٹریسٹ ریٹ کا نقصان:

انٹریسٹ ریٹ میں اضافہ جو کہ اسٹاک مارکیٹ سے عدم سرمایہ کاری کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر تجارت میں کمی اور سرمایہ کاری میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔